

کارروائیوں کے لئے محکمہ عامہ
بحران اور آفت سے متعلقہ ادارہ

ایونٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ
بحرانی صورت حال سے روسناش کرانے والا ڈویژن

حکومت دبئی میں بحران اور آفت کے حالات سے نمٹنے کے لئے ہدایات



ان ہدایات کا مقصد مفاد عامہ کی حفاظت کے خاطر تحفظ
وامن اور سلامتی کے عمومی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بہتر
انداز میں حکومت دبئی کے اندر بحرانوں اور آفتوں کا سامنا
کرنے کے لئے سوسائٹی کو بیدار رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ
دوبئی پولیس جنرل کمانڈ کے مشن کو کامیاب بنانے کے
لئے کہ دوبئی کو کمیونٹی کے لئے سب سے محفوظ اور امن
کا شہر بنانا ہے۔

حکومت دبئی میں بحران اور آفت کے حالات سے
نمٹنے کے لئے ہدایات



کبھی کبھی تیز آندھی طوفان، زلزلوں اور کسی حادثہ کے
نتیجہ میں بجلی لائن میں نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی یہ
کٹوتی مینٹیننس کے دوران بھی پیش آتی ہے۔ ویسے کمپنی
مستعدی کے ساتھ فوری طور پر بجلی بحال کردیتی ہے، پھر
بھی کبھی کبھار بجلی بحالی کے لئے گھنٹے درکار ہوتے ہیں،
چنانچہ اس دوران آپ کو عمل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل
نقاط پر دھیان دینا ہوگا:

- فقط انتہائی ناگزیر حالات میں ہی 999 نمبر پر ڈائل کریں۔ کیوں کہ
بجلی کٹنے کا عمل ایمرجنسی کی صورت حال میں شمار نہیں ہوتا
جہاں پولیس کی خدمات لینے کی ضرورت پیش آئے۔
- بجلی کٹ جانے کے دوران لفٹ کے اندر پھنسے افراد کو پر سکون
رہنے کی ہدایات دی جاتی ہیں، لفٹ میں موجود ایمرجنسی کا بٹن
دبائیں اور امدادی ٹیم آپ کی حمایت کے لئے ضرور حاضر ہوگی۔
- اگر صرف آپ کے گھر سے بجلی کٹی ہے تو بجلی ٹکنیشن کو کال
کریں، لیکن اگر آپ کے پڑوس کے گھر سے بھی بجلی کٹی ہے تو
مندرجہ ذیل اقدامات اپنائیں:
- دبئی کے اندر بجلی اور پانی کے محکمہ کا ایمرجنسی نمبر 991 پر
ڈائل کریں۔
- بجلی کے اہم ساز وسامانوں کا کنکشن بجلی سے الگ کر دیں، صرف
کسی ایک بلب یا ٹیوب لائٹ کا کنکشن باقی رکھیں تاکہ بجلی کی
واپسی کا پتہ معلوم ہو سکے۔
- بیٹری یا چارجنگ سے چلنے والے ریڈیو کی نشریات کو چالو رکھیں،
تاکہ طوفان یا زلزلے کی صورت حال کا حال معلوم ہوتا رہے۔ نیز پیش
کردہ ہدایات سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔

حکومت دبئی میں بحران اور آفت کے حالات سے
نمٹنے کے لئے ہدایات



اگر آپ باہر ہوں تو مندرجہ ذیل اقدامات اپنائیں:

- اونچی اور پرانی عمارتوں، اور بجلی کے تاروں اور کھمبوں سے دور
رہیں۔
- اگر آپ باہر کھلی جگہ میں ہیں تو جب تک جنبش ٹھہر نہیں جاتی
نہ بلیں۔

اگر آپ گاڑی کے اندر ہوں تو مندرجہ ذیل اقدامات
اپنائیں:

- رفتار دھیمی کرتے ہوئے آرام سے اپنی گاڑی بند کریں اور رک
جائیں۔
- کسی عمارت، کھمبے، پل، درخت کے نیچے یا ٹنل کے اندر گاڑی پارک
نہ کریں۔
- ریڈیو نشریات کی ہدایات کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔


اگر آپ ملبے تلے ہوں تو مندرجہ ذیل اقدامات
اپنائیں:

- لائٹر یا ماچس نہ جلائیں۔
- حرکت نہ کریں، اور کسی پتھر یا اینٹ کو ہٹانے کی کوشش نہ
کریں۔
- رومال یا اپنے کپڑوں سے اپنی منہ بند کر لیں۔
- پائپ یا دیوار پر چوٹ مارتے رہیں، سیٹی بھی بجا سکتے ہیں تاکہ
بچاؤ ٹیم کو آپ کے ٹھکانے کا اندازہ ہو جائے اور ضرورت پڑنے پر
اونچی آواز میں چلائیں۔





زلزلہ کے دوران مناسب کارروائی



زلزلے عام طور پر بہت ہی بھیانک اور خطرناک نتائج پیدا کرنے والے ناگہانی واقعات ہیں، خاص کر اس وقت جب کے عام باشندوں کو ان آفتوں سے مُٹنے کے لئے موزوں اور مناسب اقدامات کا علم نہیں ہوتا۔ اور وہ اس کے چھیٹ میں آجاتے ہیں۔

اگر آپ اس دوران کسی عمارت میں موجود ہوں تو مندرجہ ذیل طریقے اپنائیں:

- زمین پر لیٹ جائیں اور کسی مضبوط ٹیبل یا لکڑی کے سامانوں کے نیچے چھپ جائیں، اور جب تک جنبش ٹھہر نہ جائے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اگر وہاں کوئی چھپنے کا سامان نہ ملے تو اپنی ہاتھوں کے اندر اپنا سر اور چہرا چھپا لیں اور گھر کے کسی کونے میں پناہ لے لیں۔
- کانچ، کھڑکی، خارجی دروازے اور دیواروں سے الگ رہیں، ان کے علاوہ ان تمام اشیاء سے دور رہیں جس کا آپ پر گرنے کا خطرہ ہو، مثلاً بجلی اور دیگر ساز و سامان وغیرہ۔
- بجلی اور پانی کے سرے کو بند کر دیں، اور گیس کے پائپ لائن کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیں۔
- عمارت میں چڑھنے اور اترنے کے لئے لفٹ کے بجائے سیڑھی کا استعمال کریں۔



طوفان کے دوران مناسب کارروائی



کسی بھی طوفانی صورت حال میں، آپ کو تیزی کے ساتھ گھر یا گاڑی کے اندر پناہ لے لینی چاہئے۔ اگر آپ کسی طوفان کی چھیٹ میں آجاتے ہیں اور آپ اپنی رہائش گاہ یا گاڑی سے دور ہیں تو ان پوائنٹس پر دھیان دیں:

- فون اور بجلی کے آلات اور مشینوں کا استعمال کرنے سے بچیں
ٹیپلی فون یا بجلی کے کھمبے یا گھنے درختوں کے قریب کھڑے ہونے سے بچیں۔
- اونچی جگہوں میں کھڑے ہونے سے بچیں۔
- کھلے علاقے میں داخل ہونے سے بچیں۔
- دھات، لوہے اور خار دار جیسی جالوں اور تاروں کے پاس جانے سے بچیں۔
- ساحلی علاقوں، گیلے اور دلدل جگہوں اور پانی کے تالاب سے دور رہیں۔



دھند کے دوران مناسب کارروائی



بہت زیادہ دھند کے دوران، آپ کو تیز ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہئے، تاکہ کسی ناگہانی حادثہ کے رونما ہو جانے کی صورت میں آپ کا کنٹرول باقی رہے اور آپ حادثہ کی زد سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مندرجہ ذیل مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہئے:

- عام لائٹس کو جلا دیں۔
- ڈرائیونگ کی رفتار دھیمی رکھیں۔
- کسی بھی ہنگامی صورتحال سے چوکنا اور خبردار رہیں۔
- وائیپر اور دھند صاف کرنے والی چیز کا استعمال کریں۔
- موڑ کے دوران اپنی گاڑی کے سگنل کا استعمال کریں۔
- شاہراہ عام یا مصروف سڑک پر نہ رکیں۔

